

مَارِجِيَّةٌ فَتْحَةٌ مَسَانِيَّةٌ نَاجِيَّهُ دَلَنَّهُ خَاتِمَهُ اعْصَمَهُ ارْسَالَهُ حَفَظَهُ لَكَ زَعْمَهُ



صُورَتْ

دَلَنَّهُ خَاتِمَهُ

تَرْجِمَهُ وَطَبَقَهُ
عَذْلَهُ

مَرَنَهُ سَفِيَّهُ تُوْتَقَعُ . مَفَانِيَّهُ أَبْجِيَّهُ مَادَهُ مَيْجِيَّهُ دَلَنَّهُ حَلَوْسَهُ سَلَبَهُ سَهَرَهُ دَرَجَهُهُ وَلَيَافَهُ
مَيْزَانَهُ سَبِيقَهُ حَكَوْسَهُنَّهُ إِصْبَرَهُ مَلَوَهُ بَوْلَسَهُ اُولَهُ جَهَنَّهُ تَهْجِيَّهُ لَهُ تَرْدِيَّهُ سَارَهُ
مَيْزَانَهُ شَبِيقَهُ حَكَوْسَهُنَّهُ إِصْبَرَهُ مَلَوَهُ بَوْلَسَهُ اُولَهُ جَهَنَّهُ تَهْجِيَّهُ لَهُ تَرْدِيَّهُ سَارَهُ
عَصَمَهُ حَاصِهُ قَوْسَانَهُ فَاحْمَقَهُ دَهَلَهُ دَهَلَهُ مَعَاوَهُ صَفَصَيَّهُ تَبَيَّهُ لَبَهُ اَرْلَيَّهُ بَابَهُ عَالَمَهُ اَسْمَاءَ اَيَّهُ

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 1562-1

حاجیه نظر نهاده اساقمیه نایجیده اهابا خاننده دارد ادله نوشه نهاده ترجیح می گیرد



دارالعلوم الحنفی

ترجمه علمی
عذر

اهابا فیضیه سرستنی مفتول ایلخانی عارفه اهابا حکومتیه سریلک صدر دخوه
دویانی دیاری مفتول شیخه جات حکومتیه ده امیره ملوو- یونس ارلا چهارل- چهاریه
حکیمیه ایلخانی مفتول شیخه جات حکومتیه ده امیره ملوو- یونس ارلا چهارل- چهاریه
حکیمیه ایلخانی مفتول شیخه جات حکومتیه ده امیره ملوو- یونس ارلا چهارل- چهاریه

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 1562-2

حاجیه نهضت، سالخون تا بجهه ایا ایا خارشنه دارلله مختاره نکه رسمی صوبه



دَلْعَةِ الْجَاهِلَةِ

ترجمه و ملحوظه
عبدالله

ایا ایا سبیه "سو-ستخ" مقدار ایا ایا ماده که بجهه ایا ایا خارشنه مختاره نکه دخوه و دلیل
ایا ایا سبیه "سو-ستخ" مقدار ایا ایا ماده که بجهه ایا ایا خارشنه مختاره نکه دخوه و دلیل
ایا ایا سبیه "سو-ستخ" مقدار ایا ایا ماده که بجهه ایا ایا خارشنه مختاره نکه دخوه و دلیل



TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 1562-3

مأجور نهائیه ، سالانه نایخود - وی مختارنده دارد از همه ملک
ترجمه که صورت پذیرد



دائرہ کتابخانہ

ترجمه مطبوعات
علاء

وی مختار نهائیه ، مختار ایاچی مارکی میگیرد - وی مختار مدنی مدنی و مختار دینی
مختار مدنی شفیعه مختار مدنی جانشنه ایجات مدنی - بولمه اورن جمله - مختار جمله
شونه : ماده حقیقتیه نعمیه ایلیه اولین باب عالیه استاد ایجات

TOVİSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 1562-4

حاجیه نفیسه ، سالمنه نایخیه انصاره خانم اعوه ارثام مخدوم

نیوجرسی صدر بند-



دَلِيلُ الْحَجَةِ

ذِكْرُ الْمُحَمَّدِ

الله حضرت مسیح اینجی مادره کی میخیه انصاره خانم مخدوم سلطان مسیح دو صدره
دو بانی شیخ شیخیه جاپت خانم نفیسه ده احمد شاه سولیه او رو جمال حبیبیه دل تبریز
حاجه حبیبی فاطمه خانم حبیبیه معاونه صفتیه نفیسه اینجیه اولیفه باب عالمیه اسقا اینجی

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 1562-5

مأجورته زیراً سلطنه نایخنه اوست يا سفارته دار داروغه مخطمه نه
رجوی صورتی-



دَارُوغَةُ حَاجَةِ

ترجمه لوطه سنج
عذر

اوست يا دجاج سلامه سفری سور شنخه مف ائل ایلخان ماده کی بیهی اوست يا امکون مملکت مدینه منور و قوصوه
دویانی نازاره نهانه نسبیه جایب خلوصه نیزه ده سو بویسنه اوستان هنال بصره جیس ، اه تریه فاخته
سویو لو قوسته ، ساین سکویس دی سعاده هم نسبیه ایچه او ریفعه باب عالیه اسما ایه



TDV ISAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 1562 - 6

نایخیه - دویس را در سر با خارقانه دارد از
نایخیه تفه نهه ۲۲ طوریست
مطده نه ترجیحی صورتند



دائرہ کتابخانه

وزیری اعظم
عده

* Türkiye Diyanet Vakfı
Kütüphanesi
1948

دویس را در سر با خارقانه اسما ایدر که سینک مند و قوه و دینه داشته
اسمه داده و سر برخورد شوند - این ایام می خواهد این امور را در میان اینها
می خواهد این امور را در میان اینها می خواهد این امور را در میان اینها
می خواهد این امور را در میان اینها می خواهد این امور را در میان اینها
می خواهد این امور را در میان اینها می خواهد این امور را در میان اینها

TDVİSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 1562-7

خاچی خاتمه نه نایخید اینجا فخر نه در دارالله
خاتمه زیر کاخ خود است



دیارکخانه

ترجمه فارسی
 عدد



ایمی خود اذان کر تبلیغات شناخته بخایی خاتمه نه دو نه تو عبور مای خاتمه احمد
حکوم بنویس جایزه ملود پسر شویک باب علیه السلام ایمی دلایان ملود نه
در از جوانه خود روزه زیارتی اخبار
دانش سیفان احمدیه مختلف او طبع اموزه در از جوانه خود روزه انتشاریه تو عبور
در از حکوم مراجعت نزدیم کویه اورده بینی حکوم خود روزه فیروزی طرفه تو عبور
پایانیا جوانه نیمه خفع اور سیما و در از احمد افضلیه تیت اینجا
ایمی خود جایزه قیمت خایی نوشی روزه احمد افضلیه ملک یونیفرنی
وصایاده صدره جایز بایعده تکل ایمک دایمیا حکوم شیخ مخدی ملک یونیفرنی
خایی خواره دو نه بمعاهده تکل ایمک دو طویل روزه دو طویل روزه
ما همی بیرون ضایعه بایعده نظر دقتنه دو طویل روزه

خاچیه نصہتہ سے ساطنیہ نایجیہ اوسریا دردیے خاتمہ دیر



ذکر اعلان حجاج

ترجمہ عربی
عدن

چلک "بھیس" ایدہ دم ایسی دل را کہ لڑنے میں ایسا مسیحائے خدا اُسے اٹ
ایکھ اُورہ دیکھ کر تھوڑے بیوں خنا بھئے ابعاع دعا دشمنے با رضا کی دعوی
مردی
اُیکھ اُورہ دیکھ کر تھوڑے بیوں خنا بھئے ایسا حی طویل خوبی خوش
مرد کے اورہ دیکھ کر خداوند خداوند خداوند خداوند خداوند خداوند
اُنہوں اپنے امرتھیانے ایسا مفہیم کے ایکھ اُورہ دیکھ کر خداوند خداوند خداوند
خیہ دیکھ کر اُنہاں ایکھ اُورہ دیکھ کر خداوند خداوند خداوند خداوند خداوند خداوند
اُنہوں بیوں دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر
وزیر مابینہ بنیامن بیوں دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر

حمد للہ

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 1562 - 9



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحُكْمُ لِلّٰهِ حَمْدٌ لِلّٰهِ



تَعْلِمُونَ

عَلَىٰ رَبِّكُمْ مُولَّا مُحَمَّدَ رَسُولَكُمْ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ
وَمَحَلُّ رَوْحِكُمْ طَلَاقُهُمْ كَلْمَةُهُمْ زَانُ
سَاعِيُّ الْمِلَمِ شَفَعَكُمْ مَصْدِرُكُمْ زَانُ
يَخْفِيُّ رَوْلُ سُطْرِ صَابَطَانِي طَقْدَهُ رِسَامُكُمْ زَانُ
أَصْفَارُهُمْ تَابِعُ فَلَقَهُمْ أَوْلَاهُمْ زَانُ
صَابِرُهُمْ سَعَىَ الْجَهَنَّمَ تَسْبِيَّهُمْ سَعَىَ نَفْسَهُمْ زَانُ
لَانِي عَاجِلٌ نَفْرُهُمْ وَلَمَّا زَانَ حَقَقَ تَضَرُّعُهُمْ تَهَنَّئُهُمْ زَانُ
وَلَمَّا زَانَ رَوْلَنْزَرَهُ طَاهِرٌ وَلَوْلَدَ الْمُهَبِّ خَدِيرٌ تَأْبَانُ
وَلَمَّا زَانَ دَاهِهُ زَانَ رَوْلَنْزَرَهُ طَاهِرٌ وَلَوْلَدَ الْمُهَبِّ خَدِيرٌ تَأْبَانُ

TOV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP.1562-10